

71367-نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے نقشہ اور جنتری کا استعمال

سوال

میں نے ویب سائٹ پر نماز کے اوقات کے متعلق پڑھا ہے، لیکن میرے لیے آسمان (یعنی دھوپ) کے ذریعہ نماز کے اوقات معلوم کرنے مشکل ہیں، میں صرف گھری کے ذریعہ ہی معلوم کر سکتا ہوں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے زوال وغیرہ کا وقت معلوم کیا جاسکے، یا پھر گرمی اور سردی میں نمازوں کے اوقات معلوم ہو سکیں؟

پسندیدہ جواب

نماز کے تفصیلی اوقات بیان ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے پر یہ کل طریقہ بھی ذکر کیا ہے جس میں سایہ کو مد نظر رکھنے سے زوال کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح دن کے گھنٹوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح آدمی رات اور اس کے حساب کا طریقہ بھی سوال نمبر (9940) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے۔

یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ضرورت کے وقت ہر شخص اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اور پھر اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسانی پیدا کی ہے کہ آج کل کلینڈر اور نمازوں کے اوقات کے نقشہ جات معروف ہیں جن سے تفصیلی اوقات معلوم کیے جاسکتے ہیں، ہر دن اور ہر موسیم گرمی اور سردی اور علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی کشہت اور اذان کی آواز جو نماز کا وقت شروع ہونے کی علامت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

اور اگر ہر انسان کو ملکفت کیا جائے کہ وہ فجر کے وقت کی تحدید کرنے کے لیے روزانہ افقت کی جانب دیکھے، یا پھر سایہ اور اس کی لمبائی اور کمی کو پر غور اور تأمل کرے تاکہ ظہر اور عصر کا وقت معلوم ہو سکے، تو اس میں مشقت اور حرج ہو گا، اور پھر شریعت اسلامیہ میں ان دونوں کی نفع کی گئی ہے۔

شیخ عبد الرحمن البر اک حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

طلوع فجر اور طلوع شمس کا درمیانی وقت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہے، جیسا کہ کلینڈر میں بیان ہوا ہے، اور یہ کلینڈر نمازوں کے اوقات گھنٹہ اور منٹ کے حساب سے جاننے میں لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بن چکا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نماز پڑھنے والے دین اسلام کا رکن اور ستون ہیں، چنانچہ مسلمان شخص کے لیے نماز پڑھنے بروقت ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

{او روہ او گ جو اہنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں}۔ المuarج (34)۔

اور ایک مقام پر ارشادِ باری ہے :

{نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص کر درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ}۔ البقرۃ (238)۔

اور درمیانی نماز عصر کی نماز ہے "انتہی"

مزید تفصیل کے آپ سوال نمبر (8048) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

کلینڈروں اور نقشہ بات کی اہمیت اور فادیت کے باوجود اس میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بشری اور انسانی عمل ہے جو کہ غلطی سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن غالباً اور عموماً اس میں اوقات کی تحدید کی گئی ہے، لیکن بعض میں فرک کی تحدید میں غلطی ہوتی ہے، جیسا کہ سوال نمبر (26763) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں سیدھی راہ کی توفیق نصیب فرمائے۔

واللہ اعلم۔